

Attempt questions

- 1 The most reactive non-metal is: سب سے زیادہ ری ایکٹو نان میٹل ہے۔ 1
- a. F b. Cl a. F b. Cl
- c. Br d. I c. Br d. I
- 2 Metals are generally good conductors of electricity because: میٹلز عموماً بجلی اور حرارت کے اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں کیونکہ: 2
- a. Mobile electrons are present a. موبائل الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں
- b. Metal cations are present b. میٹل کیٹائن موجود ہوتے ہیں
- c. They are hard enough c. یہ کافی سخت ہوتے ہیں
- d. Mobile protons are present d. موبائل پروٹانز موجود ہوتے ہیں۔
- 3 Sodium is very reactive metal but it does not react with: سوڈیم بہت ری ایکٹو میٹل ہے۔ لیکن ان میں سے کس کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتی 3
- a. Hydrogen b. Nitrogen a. ہائیڈروجن b. نائٹروجن
- c. Sulphur d. Phosphorus c. سلفر d. فاسفورس
- 4 Electronic configuration of potassium is: پوٹاشیم کی الیکٹرونک کنفیگریشن ہے۔ 4
- a. (He)2s¹ b. (Ne)3s¹ a. (He)2s¹ b. (Ne)3s¹
- c. (Kr)4s¹ d. (Ar)4s¹ c. (Kr)4s¹ d. (Ar)4s¹
- 5 Which one of the following element is the lightest and floats on water? ان میں سے ہلکا ترین اور پانی پر تیرنے والا کون سا ایلیمنٹ ہے؟ 5
- a. Ca b. Li a. Ca b. Li
- c. Na d. Mg c. Na d. Mg
- 6 Which one of the following non-metals is extremely hard? ان میں سے کونسی نان میٹل انتہائی سخت ہے؟ 6
- a. Graphite b. Phosphorus a. گریفائٹ b. فاسفورس
- c. Diamond d. Iodine c. ڈائمنڈ d. آئیوڈین
- 7 The percentage of Nitrogen in air is: ہوا میں نائٹروجن کی مقدار ہے: 7
- a. 70% b. 78% a. 70% b. 78%
- c. 21% d. 20% c. 21% d. 20%
- 8 The colour of flame of Magnesium in air is: ہوا میں جلنے پر میگنیشیم کے شعلے کا رنگ ہوتا ہے: 8
- a. Brilliant white b. Brick Red a. بھڑکیلا سفید b. سرخی مائل
- c. Golden Yellow d. Pale Yellow c. سنہری زرد d. زرد پیلا